

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ  
سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ  
مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ  
فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
(21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
وَ تَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ  
فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ  
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا  
عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى  
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمَلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ

الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ

فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28)

Those who believe say, "Why is not a sura sent down (for us)?" But when a sura of decisive meaning is revealed, and fighting is mentioned therein, thou wilt see those in whose hearts is a disease looking at thee with a look of one in swoon at the approach of death. But more fitting for them- were it to obey and say what is just, and when a matter is resolved on, it were best for them if they were true to Allah. Then, is it to be expected of you, if ye were put in authority, that ye will do mischief in the land, and break your ties of kith and kin? Such are the men whom Allah has cursed for He has made them deaf and blinded their sight. Do they not then earnestly seek to understand the Quran, or is that there are locks upon their hearts? Those who turn back as apostates after guidance was clearly shown to them,- Satan has instigated them and busied them up with false hopes. This, because they said to those who hate what Allah has revealed, "We will obey you in part of (this) matter"; but Allah knows their (inner) secrets. But how (will it be) when the angels take their souls at death, and smite their faces and their backs? This because they followed that which displeased Allah, and they hated Allah's good pleasure; so He made their deeds of no effect.

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی (جس میں جنگ کا حکم دیا جائے) مگر جب ایک پختہ سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر۔ (ان کی زبان پر ہے) اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں۔ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اُس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لئے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم اٹھے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یاد لوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اُس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کی



یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی  
روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے  
جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اُس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو  
ناراض کرنے والا ہے اور اُس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اُس  
نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورا کبھی نہیں نازل  
کی جاتی (جس میں جنگ کا حکم دیا جائے) | مگر جب ایک پختہ  
سورا نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا حکم تھا تو تو نے دیکھا کہ  
ان کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے  
کسی پر موت آئی ہو | افسوس ان کے حال پر | (ان کی زبان  
پر ہے) اذات کا اقرار اور اچھی-اچھی باتیں | مگر جب کتب  
ہم دے دی گئی تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے اہد سے سچے  
نکلنے کے لیے اچھا تھا | اب کیا تم لوگوں سے اس کے  
سوا کچھ اور تھوڑی سی کا سکتی ہے کہ اگر تم اٹھو تو  
پھر آئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک-  
دوسرے کے گالے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور  
ان کو اندھا اور بھرا بنا دیا | کیا ان لوگوں نے کورآن پر گور  
نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے کھلم کھلے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ  
جو لوگ ہدایت پا جائیں گے ان کے لیے پھر آئے ان کے لیے  
شیطان نے اس ریش کو سہل بنا دیا ہے اور کٹی تھوڑی اذات کا  
سلسلہ ان کے لیے درج کر رکھا ہے | اسی لیے انہوں نے اللہ کے  
نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ باج  
ماملات میں ہم تمہاری مانیں گے | اللہ ان کی یہ کھلی باتیں  
جانتا ہے | پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی رُوں



~~~~~

कब्ज़ करेंगे और उनके मुँह और पीठों पर मारते हुए उन्हें ले जाएँगे?  
यह इसी लिए तो होगा कि उन्होंने उस तरीके की पैरवी की जो  
अल्लाह को नाराज़ करनेवाला है और उसकी रिज़ा का रास्ता  
इख़तियार करना पसन्द न किया | इसी बिना पर उसने इनके सब  
आमाल ज़ाया कर दिए |

~~~~~